



UNIVERSITY OF  
OXFORD

خاندانوں کے  
لیے ہدایت نامہ:  
آکسفورڈ کے  
درخواست دہندہ  
کی اعانت کرنے  
والے



# مشمولات

- 
- 1 خوش آمدید
  - 2 یونیورسٹی کیوں جائیں؟
  - 3 آکسفورڈ کیوں آئیں؟
  - 4 کیا آکسفورڈ کی جانب سے مستقبل کے پیشوں میں مدد ملتی ہے؟
  - 5 ہر چیز کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتے؟
  - 6 کیا آکسفورڈ کی جانب سے لاگت میں مدد ملتی ہے؟
  - 8 وہ کورس کا انتخاب کس طرح سے کرتے ہیں؟
  - 10 وہاں کس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے؟
  - 11 وہاں تعلیم کے حوالے سے دیگر کس قسم کی مدد فراہم کی جاتی ہے؟
  - 12 وہ کہاں رہتے ہیں؟
  - 14 ان کی دیکھ پہال کون کرتا ہے؟
  - 15 کیا وہاں پر تفریح اور دوستوں کے لیے وقت ملتا ہے؟
  - 16 یہاں کون تعلیم حاصل کرتا ہے؟
  - 18 وہ کس طرح سے درخواست دیتے ہیں؟
  - 19 ہم مزید معلومات کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟
  - 20 ہم کس طرح سے ان کی دلچسپی برقرار رکھ سکتے ہیں؟
- 
- 

مزید سوالات ہیں؟

اگر یونیورسٹی میں پڑھنے کے حوالے سے  
کوئی ایسی چیز ہے جو آپ یا آپ کا بچہ  
جاننا چاہیں، تو براہ کرم [ox.ac.uk/ask](http://ox.ac.uk/ask) پر ای  
میل کر کے رابطہ کریں۔

# خوش آمدید

ڈائریکٹر برائے انڈرگریجوئیٹ داخلہ جات و آؤٹ ریج ہونے کے علاوہ، میں دو پیارے بیٹوں کی ماں بھی ہوں۔ جب بات اس حوالے سے فیصلہ لینے کی ہو کہ اسکول کے بعد کیا کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ نوجوان افراد کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ اختیارات موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصلے لینا لازماً آسان ہو۔ خاندانوں کے لیے یہ جاننا پیچیدہ ہوسکتا ہے کہ کس طرح سے بہترین انداز میں مدد کی جائے، خصوصاً اس صورت میں جب وہ خود کبھی یونیورسٹی نہ گئے ہوں۔

میرا نظر ریہ بمیشہ اس بات کی یقین دبانی ہے کہ میں بر ممکنہ حد تک باخبر رہوں - کم از کم تب کہیں جا کے اس بات کا نصف امکان پوگا کہ میری بات سنی جائے گی! میں نے یہ بیان نامہ آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرنے کے لیے لکھا ہے۔ لیکن یہ اس بارے میں بھی ہے کہ بمارے مطابق یونیورسٹی جانا کیونکر زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے اور یہ قابل طلباں کو غیرمعمولی اور خوشگوار زندگی جینے کی ترغیب بھی دے سکتا ہے۔ اس میں یہ تجاویز بھی موجود ہیں کہ وہ بچہ جس کی آپ معاونت کر رہے ہیں کس طرح سے اس چیز کا انتخاب کر سکتا ہے جو وہ پڑھنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے کہ ایک مضبوط ترین درخواست کس طرح سے جمع کروائی جائے۔

بم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آکسفورڈ میں طبلاء محفوظ باتوں میں ہیں، لہذا ہم نے ان کے یہاں قیام کے دوران، اور ان کے گریجوئیٹ بو جانے کے بعد، بماری جانب سے پیش کردہ بر قسم کی معاونت کی تفصیلات فراہم کر دی ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے واضح طور پر باخبر ہونا پوگا کہ لاگتوں سے کس طرح سے نٹا جائے گا۔ میں ایک بار پھر سے آپ کو یقین دبانی کروانا چاہوں گا/گی کہ UK کے طبلاء کے بماری مالی اعانت، قم ایونیورسٹیز کی جانب سے پیش کردہ مالی اعانتوں میں سے بہترین ہے۔ اور ظاہر ہے، کہ آپ کو بھی معاونت فراہم کی جائے گی: اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، تو براہ کم رابطہ کریں - بمیں مدد کر کے واقعًا خوشی محسوس ہوگی۔ متبادل طور پر، آپ کسی بھی وقت بماری ویب سائٹ [ox.ac.uk/study](http://ox.ac.uk/study) ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

بم سبھی اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتے ہیں لیکن یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے مدد کی جائے، لہذا مجھے امید ہے کہ یہ بیان نامہ آپ کے لیے اس عمل کو آسان تر بنادے گا۔

ڈاکٹر سمینہ خان (Dr Samina Khan)  
ڈائریکٹر برائے انڈرگریجوئیٹ داخلہ و آؤٹ ریج



“

اس میں کافی زیادہ معلومات موجود ہیں، اور ان سب کو سمجھنے میں آپ کے بچے کو والدین کی جانب سے کسی قسم کی جادوئی مدد درکار پو سکتی ہے۔ بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اس حقیقت سے بمنکار پو جائیں، آکسفورڈ کے طبلاء بالکل عام طبلاء کا ایک ایسا گروہ ہے جو کہ اوسط طبلاء سے تہوڑی زیادہ سمجھہ رکھتے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں، TV کے سامنے بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، کام کو آخری وقت پر مٹانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے دوستوں کا تعاقب بر قسم کے اسکول، معاشرتی پس منظر اور بر ممکنہ شبے سے بوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس سے کہیں بھی موجود طبلاء پو سکتے ہیں!

الیلیسن (ALISON)

“

میرے مطابق آکسفورڈ اب مزید ایک ایسی جگہ نہیں ہے جو قابل رسانی نہ ہو، یا ایک ایسا خواب ہو جو خاص طور پر مراعات یافتہ ذہین لوگوں تک بی محدود ہو، بلکہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ میں اس موقع کا فائدہ کس طرح سے اٹھانا/اٹھاتی ہوں۔ ایک ایسی جگہ جہاں سے میں فینیکس (PHOENIX)

# یونیورسٹی کیوں جائیں؟

## زندگی تبدیل کر دینے والے تجربات اور موقع



آکسفورڈ میں اپنے وقت کے اختتام پر، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طبلاء وہ صلاحیتیں پیدا کر چکے ہوں گے جن کی ضرورت انہیں اپنی زندگی کے انتخاب میں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پ्रاعتماد اور پروجھ محسوس کریں، اور ہمیں یقین ہے کہ یونیورسٹی میں انہیں جو موقع ملیں گے وہ ان کی کامیابی اور خوشی میں کافی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

اس لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جانے کا انتخاب کرنا ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ اس کا اشتراک کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے طبلاء اکثر ہمیں بتاتے ہیں کہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ مختلف چیزوں کے بارے میں باتیں کرپانا کتنا معنی رکھتا ہے۔ اس لیے، خواہ آپ یونیورسٹی کئے ہیں یا نہیں، تابم جب ہم کہیں کہ آپ واقعی مدد کر سکتے ہیں تو براہ کرم ہم پر یقین کریں!

ابتداء میں، اس بارے میں چند جو باتیں پیش ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے یونیورسٹی ایک بہترین انتخاب کیوں ہے:

### مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا

طلباء اپنی ذات کے حوالے سے اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی سے کیا چاہتے ہیں۔ انہیں اچھے انداز میں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے۔

### اچھی ملازمت حاصل کرنا

یونیورسٹی ایسی مہارتیں پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے جو کہ بعد میں ایک اچھے معاوضے والی ملازمت تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ گریجوئٹ افراد اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں کے دوران اکثر ان لوگوں سے زیادہ کاماتے ہیں جو ڈگری کے حامل نہ ہوں۔

### لوگوں سے ملننا

طلباء کو قام پس مناظر اور دنیا بھر سے آئے افراد سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ یونیورسٹی میں ہونے والی دوستیاں اور روابط اکثر زندگی بھر برقرار رہتے ہیں۔

### سیکھنے سے لگاؤ

اگر کوئی فرد سیکھنے کے بارے میں متعجب ہے اور اسے چیزوں پر سوال اٹھانا پسند ہے، تو ممکن ہے کہ وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے سے لطف اندوز ہو۔ انہیں اپنی دلچسپی کے پہلوؤں کو دریافت کرنے اور اپنی سمجھہ بوجہ کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔



”  
یہ خیال میرے لیے  
انتیاٹی مسرت کن تھا  
کہ میں اپنا پسندیدہ مضمون  
اس شعبے میں موجود ایسے  
ہمارین سے پڑھوں گی جن کا تعلق  
دنیا بھر سے تھا۔  
لی (LILY)



# آکسفورڈ کیوں آئیں؟

## یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے

انہیں آکسفورڈ کے بارے میں کیوں سوچنا چاہئے؟ اگر آپ جا بی رہے ہیں، تو کیوں نہ بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک میں جایا جائے؟ اس بات کی کچھ مناسب وجوہات موجود ہیں جن کی بنا پر گزشتہ چار سالوں میں پہمین دنیا کی بہترین یونیورسٹی کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔\*

\*علمی درجہ بندیاں، 2019-2020



### دنیا میں تبدیلی لانا

آکسفورڈ میں آپ دنیا کے مستقبل کو بدلنے والی جدید ترین تحقیق کے مرکز میں موجود لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں۔

[ox.ac.uk/research](http://ox.ac.uk/research)



### قریبی کمیونٹیز

آکسفورڈ 30 سے زائد کالجوں پر مشتمل ہے، جس کا مطلب ہے کہ طلباء ایک بڑی، عالمی سطح کی یونیورسٹی اور ایک چھوٹی، دوستانہ کمیونٹی دونوں ہی سے تعلق استوار کر کے مستفید ہوتے ہیں۔

[ox.ac.uk/ugcolls](http://ox.ac.uk/ugcolls)

### پیشہ ورانہ زندگی سے متعلق مابراہم مشورہ

بماری کیریئر سروس بمارے تمام طبلاء کو ملازمت کے موقعوں اور مزید تعلیم کے سلسلے میں مفت، تاحیات اور مابراہم مشورے کی پیشکش کرتی ہے۔

[ox.ac.uk/careers](http://ox.ac.uk/careers)

### سیکھنے کے لیے بہترین مقام

100 لائبریریوں، چار عالمی-درجے کے عجائب گھروں اور لگ بھگ 1,500 لیباریٹریز کے ساتھ، بمارے طبلاء کے پاس اپنی دبیلز پر بی دنیا کی بہترین تعلیمی سہولیات میں سے ایک موجود ہے۔

[ox.ac.uk/learningresources](http://ox.ac.uk/learningresources)

### اول-درجہ کی تدریس

آکسفورڈ کے طبلاء مابراہم کی جانب سے ذاتی توجہ کی سطح سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، جس کی پیشکش زیادہ تر یونیورسٹیاں نہیں کرتیں۔

[ox.ac.uk/tutorials](http://ox.ac.uk/tutorials)

### لاگتوں کا اشتراک کرنا

آکسفورڈ ان افراد کو رفابی مالی اعانت کی پیشکش کرتی ہے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ فی الحال UK کے بر چار طبلاء میں سے ایک کو رہن سہن کے اخراجات کے لیے برسی (جس کی بازادائیگی کی ضرورت نہیں ہوتی) موصول ہوتا ہے، اس لئے انہیں رقم کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

[ox.ac.uk/funding](http://ox.ac.uk/funding)

### موقع کی دنیا

یہاں پر موجود طبلاء کی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی وقت موجود ہے۔ یہاں پر تفریح کرنے، میل جوں رکھنے اور کارآمد صلاحیتوں کو فروغ دینے کے سینکڑوں موقع موجود ہیں۔

[ox.ac.uk/opportunities](http://ox.ac.uk/opportunities)

### تفریحی اور طالب علم کا مرکزی شہر

آکسفورڈ نہ صرف خوبصورت ہے، بلکہ یہ طبلاء سے بھرپور، ایک جوان شہر ہے۔ یہ رہنے کے لیے بہترین مقام ہے۔

[ox.ac.uk/livingin](http://ox.ac.uk/livingin)

# کیا آکسفورڈ مستقبل کے پیشوں میں مددگار ثابت ہوتی ہے؟

## کامیابی اور اچھی ملازمت کی جانب

آکسفورڈ کی ڈگری ایک کامیاب مستقبل کے لیے ایک بہترین شروعات فراہم کرتی ہے۔ خواہ آپ کا بچہ کوئی بھی مضمون پڑھے، ان کے لیے وسیع موقع دستیاب ہوں گے۔ بماری کیریئر سروس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے - مفت اور تاحیات - وسیع معاونت فراہم کرتی ہے کہ آپ کا بچہ اپنے مستقبل کے بارے میں پر اعتماد محسوس کرے۔

### کیا ان کی ڈگری ایک اچھی ملازمت کی تلاش میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی؟

آکسفورڈ میں رہتے ہوئے، طلباء کے پاس کام تلاش کرنے اور اپنی ملازمتوں میں کامیاب ہونے میں مدد کے لیے صلاحیتوں کو فروغ دینے کے متعدد موقع موجود ہیں۔ دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ تعلیم کو برقرار رکھنا وقت کے مناسب انتظام اور افادیت کا زبردست ثبوت ہے۔ اسٹوڈنٹ کلبز اور سرگرمیاں بھی مواصلت، بجٹ سازی اور ٹیم ورک جیسی صلاحیتوں کی پیشکش کر سکتی ہیں۔

### کام سے متعلق تجربہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟

آکسفورڈ کے مختصر تعلیمی ایام کا مطلب یہ ہے کہ چھٹیوں کے دوران طلباء کے پاس انٹرنیشپس مکمل کرنے یا کام کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے بہت سا وقت موجود ہوتا ہے اور ان موقعوں کو تلاش کرنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ بمارے طلباء کو سینکڑوں انٹرنیشپس تک رسائی حاصل ہے، جس میں UK اور بیرون ملک میں موسم گرما کے سینکڑوں انٹرنیشپس، ساتھ ہی UK میں بفتہ بہر پر مشتمل انٹرنیشپس شامل ہیں۔ یہ ملازمت کے کسی مخصوص شعبے کے بارے میں سمجھہ بوجھ حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہیں۔

### پیشوں سے متعلق دیگر کس قسم کی معاونت دستیاب ہے؟

آپ کے بچے کے پیشہ ور انہیں ابداں کو سمجھنے سے لے کر، ان کے عزم کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنے تک، بماری پیشہ ور انہ سروس ربمنی کی پیشکش کر سکتی ہے۔ یہ درج ذیل فراہم کرتی ہیں:



اب میں طالب علم کے

لیے نکالے گئے ایک رسالے

کی مینیجنگ ایڈیشن ہوں، یہ گھر

افراد کے لیے رقم جمع کر رہی ہوں،

افریق اور کربیانی سوسائٹی کے لیے انسانی

حقوق کے فورم کی سربراہی اور تقریبات منعقد

کر رہی ہوں - بڑے کام جسے کرنے کے

بارے میں، میں نے یونیورسٹی میں

ربتے بوئے کہیں نہیں سوچا تھا۔


(KALYNA)

### ان کے آکسفورڈ سے نکل جانے کے بعد کیا ہوگا؟

زیادہ تر یونیورسٹیوں کے بخلاف، آکسفورڈ کے تمام سابق طلباء کو تاحیات آکسفورڈ کیریئر سروس تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں مشورے کے سیشنز اور ملازمت سے متعلق بزاروں اشتہارات تک رسائی شامل ہے۔ دنیا بھر میں کام کرنے والے آکسفورڈ کے 300,000 سے زائد گریجوئیٹس کے ساتھ، آپ کا بچہ ہر اس کام میں آکسفورڈ کے دیگر گریجوئیٹس کی حمایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو وہ کرنے کا انتخاب کرے۔

# ہر چیز کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہے؟

## پیشگی طور پر کچھ ہی لاگتوں کی ادائیگی کی جاتی ہے



آکسفورڈ اس بات کے لیے پر عزم ہے کہ وہ تمام طلباں یہاں تک آنے کے اخراجات کو برداشت کر سکیں جنہیں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ پیشگی طور پر کچھ ہی لاگتوں کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور UK کے طلباے کے لیے، حکومت، یونیورسٹی اور طالب علم کے کالج کی جانب سے مختلف مالی معاونتیں دستیاب ہیں۔

### اس میں کتنی لاگت آتی گی؟

طلباے کو دو لاگتوں کی ادائیگی کرنی پوچھی ہے۔

#### کورس فیس:

- اس کی ادائیگی کورس کی تدریس اور سہولیات کے لیے کی جاتی ہے۔
- ایک آکسفورڈ کی ڈگری میں اتنی بی لاگت آتی ہے جتنی UK کی دیگر یونیورسٹیوں کی ڈگری میں آتی ہے۔
- کورس کی عین فیس اس بات پر منحصر ہے کہ آیا آپ کا بچہ UK کا رہائشی یا بین الاقوامی طالب علم ہے۔
- فی الوقت، UK کے رہائشی طالب علم کے کورس کی فیس £9,250 سالانہ ہے، لیکن 2021-2022 کی فیس کا تعین موسم خزان سے قبل نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تفصیلات کے لیے، ذیل پر جائیں: [ox.ac.uk/ugfees](http://ox.ac.uk/ugfees)

#### ربن سہن کی لاگتیں:

ان میں کہاں/پینا، کرایہ اور سماجی سرگرمیاں شامل ہیں۔

- یہ لاگتیں طالب علم کے طرزِ زندگی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں لیکن 2020 میں، کرائے اور کہاں/پینے سمتی، آکسفورڈ میں رہنے والے طالب علم کے ربن سہن کی کل تخمینی لاگتیں، ماباہم £1,135 سے £1,650 کے درمیان ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے، ذیل پر جائیں: [ox.ac.uk/uglivingcosts](http://ox.ac.uk/uglivingcosts)

EU طلاہ: 22-2021 کے درمیان کورس کا آغاز کرنے والے EU کے طلاہ کے لیے فیس اور امدادی انتظامات فی الحال نامعلوم ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے لیے بماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں:

[ox.ac.uk/students/oxford-and-the-eu](http://ox.ac.uk/students/oxford-and-the-eu)

#### اس کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہے؟

UK کے تمام طلباے دو مختلف سرکاری قرضوں کی درخواست دے سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں:

#### ٹیوشن فیس کا قرض:

- یہ آپ کے بچے کے کورس کی فیس کی مکمل رقم کا احاطہ کرتا ہے اور معینہ مدت تعلیم کے لحاظ سے اس کی ادائیگی براہ راست یونیورسٹی کو کی جاتی ہے۔

#### رکھا ہاؤ سے متعلق قرض:

- یہ ربن سہن کی لاگتوں کے لیے دیا جاتا ہے اور بر ایام تعلیم کے آغاز میں آپ کے بچے کو ادا کیا جاتا ہے۔
- آپ کے بچے کو دی جانے والی رقم کا انحصار اس امر پر ہے کہ ان کے گھر کی کل آمدنی کتنی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے، ذیل پر جائیں: [ox.ac.uk/funding](http://ox.ac.uk/funding)

#### قرضوں کی بازادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہیں؟

- طلباے ان قرضوں کی بازادائیگی صرف اسی وقت شروع کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی ملازمت ہو اور ان کی آمدنی (2019/20) کے ٹیکس سال کے مطابق) سالانہ £25,725 سے زائد ہو۔
- مثال کے طور پر، 2019/20 میں £30,000 کے مکانے والے ایک گریجوئنٹ سے ماباہم £32 کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔
- 30 سالوں کے بعد تمام غیر ادائیگی شدہ قرضوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔

#### ویلز (Wales) اسکاٹ

لینڈ (Scotland) اور

شمالی آئرلینڈ (Northern

Ireland) سے تعلق رکھنے والے کم آمدنی پر مشتمل گھرانوں کے طلاہ فی الحال ناقابل واپسی سرکاری بحالی گرانٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ویلز (Wales) اسکاٹ

لینڈ (Scotland) اور

شمالی آئرلینڈ (Northern

Ireland) سے تعلق رکھنے والے کم آمدنی پر مشتمل گھرانوں کے طلاہ فی الحال ناقابل واپسی سرکاری بحالی گرانٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ویلز (Wales) اسکاٹ

لینڈ (Scotland) اور

شمالی آئرلینڈ (Northern

Ireland) سے تعلق رکھنے والے کم آمدنی پر مشتمل گھرانوں کے طلاہ فی الحال ناقابل واپسی سرکاری بحالی گرانٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔



# کیا آکسفورڈ کی جانب سے لاگتوں میں مدد ملتی ہے؟

## رفابی مالی اعانت دستیاب ہے

ہم واقعتا ایسا نہیں چاہتے کہ ہمارے طبلاء بلوں کی ادائیگی کے حوالے سے فکرمند ہوں، لہذا آکسفورڈ UK کی قام یونیورسٹیوں کی فرماخ ترین رفابی مالی اعانتوں میں سے بہترین کی پیشکش کرتی ہے۔ فی الوقت UK میں رہنے والے بر چار طبلاء میں سے لگ بھگ ایک ناقابل واپسی برسری موصول کرتا ہے۔

### کس قسم کی فنڈنگ دستیاب ہے؟

محدود آمدنی والے گھرانے سے تعلق رکھنے والے UK کے طبلاء کے لیے ان کی لاگتوں کا احاطہ کرنے کے لیے ناقابل واپسی فنڈنگ دستیاب ہے۔

#### کرینک اسٹارٹ اسکالر شپس

#### (Crankstart Scholarships)

کرینک اسٹارٹ اسکالر شپ تعلیم اور رہن سہن کی لاگتوں کے لیے £5,000 سالانہ تک کی ناقابل ادائیگی برسری فراہم کرتی ہے۔ یہ ملازمت کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ، رضاکارانہ موقع کے لیے فنڈ یافہ انٹرنیشنل پس تک رسائی بھی فراہم کرتی ہے۔ آکسفورڈ کرینک اسٹارٹ اسکالر شپس UK کے ان تمام طبلاء کے لیے دستیاب بین جوکے £27,500 یا اس سے کم کی گھریلو آمدنی کے ساتھ اپنی پہلی ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

#### آکسفورڈ برسری

#### (Oxford Bursary)

UK کے ایسے طبلاء جو کہ اپنی پہلی ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جن کے گھرانے کی کل آمدنی £42,875 سالانہ سے کم ہے، (جنہیں کرینک اسٹارٹ اسکالر شپ حاصل نہیں ہوا ہے) وہ لاگت میں امداد کے لیے ناقابل واپسی سالانہ برسری کے ابل ہیں۔ اس برسری کی رقم گھرانے کی کل آمدنی پر منحصر ہے لیکن یہ £3,200 سالانہ تک بوسکٹ ہے۔

#### آکسفورڈ-آلن ہیملٹن اور ایرلن بٹلر سمز اسکالر

#### (Oxford-Arlan Hamilton and Earline Butler Sims)

پسمندہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے UK کے سیاہ قام افریقی یا سیاہ فام کریبیائی میراث کے شہری اس ناقابل واپسی اسکالر شپ کی درخواست کر سکتے ہیں، جو کہ تین سالوں تک، پر سال زیر گریجوئیٹ ایک طالب علم کی فیس اور رہن سہن کی لاگتوں کا احاطہ کرتی ہے۔

#### نگہداشت میں تحریک یا جنگی طلبی

اگر آپ کا بچہ کبھی بھی تین مہینے سے زیادہ نگہداشت میں رہا ہے، یا وہ اپنے خاندان سے دور رہا ہے، تو بم اپنیں £3,000 تک کی ناقابل واپسی سالانہ برسری کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں کرینک اسٹارٹ اسکالر شپ بھی موصول ہو رہا ہے، تو وہ پر سال زیادہ سے زیادہ کل £7,200 کی برسری کے لیے ابل بوسکٹ ہیں۔

#### آکسفورڈ ٹریویول سپلیمنٹ

#### (Oxford travel supplement)

اگر آپ کا بچہ کرینک اسٹارٹ اسکالر شپ یا آکسفورڈ برسری کا حامل ہے اور وہ آکسفورڈ سے 80 اور 150 میل کے درمیان رہتا ہے، تو اسے سالانہ £200 کی ناقابل واپسی آکسفورڈ ٹریویول سپلیمنٹ دی جائے گی۔ اگر وہ آکسفورڈ سے 150 میل سے زائد کی دوری پر رہتا ہے، تو اسے £500 دیے جائیں گے۔

#### طالبانہ امدادی فنڈ

یہ فنڈ UK کے ایسے طبلاء کی مدد کرتا ہے جنہیں مختلف حالات میں مالی امداد کی ضرورت بوسکتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی مالیات میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا اپنے کورس کے آغاز کے بعد اسے اضافی استثنائی اخراجات پورے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ناقابل واپسی اعزازی فنڈنگ کے لیے درخواست دینے کے ابل ہوں گے۔





کالج میں کھانا

بہت سستا ہے، اور

آپ کو شاذوندار بی کتابیں

خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے

کیونکہ آکسفورڈ میں بر چیز

دستیاب ہے۔

(MAEVE)

### کالج لائکنٹوں میں کمی کو کس طرح سے برقرار رکھتے ہیں؟

بہت سے کالج تحقیق، سازو سامان اور تعلیم کی غرض سے کہے جانے والے سفر جیسی چیزوں کے لیے اضافی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ، ایسے طلباء کو مالی تنگی سے متعلق فنڈنگ کی پیشکش کرتے ہیں جنہیں نمایاں یا غیر متوقع مالی ضروریات کا سامنا ہوتا ہے۔

#### آکسفورڈ کس طرح سے ان کے اخراجات میں مزید کمی لاتی ہے؟

- پورے آکسفورڈ میں 13 ملین پرنسٹ شدہ اشیاء کی حامل 100 سے زائد لائبریریوں کے ساتھ، عام طور پر طلباء خریدنے کی ضرورت پیش آتے بغیر بی اپنی ضرورت کی کتابیں اور تعلیمی ذرائع تلاش کر سکتے ہیں۔
- آکسفورڈ کالج امدادی گذا اور تفریح فرایم کرتے ہیں، لہذا کہانے/بینے اور فعال سماجی زندگی برقرار رکھنے میں زیادہ اخراجات کی ضرورت نہیں پڑتی۔
- یونیورسٹی اور کالجوں میں کھیلوں کی اپنی سہولیات موجود ہیں جوکہ عام طور پر مفت یا طلباء کے لئے امدادی بنیادوں پر دستیاب ہوتی ہیں۔
- آپ کے بچے کو اس کے کورس کے دوران کم سے کم دو سالوں کے لیے کالج بی میں ایک کمرے کی پیشکش کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں صرف تعلیمی ایام کے دوران ہی کرایہ ادا کرنے کی ضرورت ہو گی، جس کی مدت عموماً اٹھ پفتے ہوتی ہے۔



میرا تعلق ایک ایسے گھرانے

سے ہے جہاں والد والدہ تھا ہی

بچے کے پروشوں کرتے ہیں، اور میری

والدہ دیرینہ بیماری میں مبتلا ہیں، جس کے

نتیجے میں لگ بھگ پانچ سالوں سے میں وقفے

وقفے سے ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ آکسفورڈ آئے

کی تیاری کرتے ہوئے رقم سے متعلق تناول وہ آخری چیز تھی

جس کی مجھے ضرورت تھی... کرینک اسٹارٹ کی پیشکش

نے میرے کندھوں سے بہت بھاری بوجھ بلکا کر دیا

ہے۔ باشہبہ، کرینک اسٹارٹ اسکالر شپ اب تک

مجھے ملنے والے بہترین موقع میں سے

ایک تھا۔

(ELLE)

برسری معاونت اہم

ہے کیونکہ یہ زیادہ تر

ریائشی اخراجات کا احاطہ کرتی

ہے۔ مجھے اپنی مالی صورت حال کے

بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں

ہے، اور میں اپنی تعلیم پر توجہ

مرکوز کر سکتی ہوں۔

(LUKAS)

# وہ کس طرح سے کورس منتخب کر سکتے ہیں؟

## کچھ ایسا کرنا جو انہیں پسند ہو

کچھ طلباً یونیورسٹی میں اپنا پسندیدہ تعلیمی مضمون پڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ دیگر کسی نئی چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ یونیورسٹی میں درخواست دیتے ہوئے کورس کا انتخاب طلباً کی جانب سے لیا جانے والا سب سے ابم فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ لینا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن سب سے ابم بات یہ ہے کہ آپ کا بچھہ ایک ایسے کورس کا انتخاب کرے جس کے بارے میں وہ واقعتاً مزید جاننا چاہتا ہے اور جسے پڑھ کر وہ لطف اندوز ہوگا۔ اس بات سے بالاتر کہ ان کا ڈگری کورس کیا ہے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے طلباً کے پاس خوشگوار پیشوں کا اختیار موجود ہوتا ہے۔

### وہ کس طرح سے درست کورس کا انتخاب کر سکتے ہیں؟

تعلیم حاصل کرنے کے لیے درست کورس کا انتخاب کرنے کے بہت سے مختلف طریقے موجود ہیں۔

#### پسندیدہ مضمون

کچھ لوگوں کا اسکول کے زمانے سے بی کوئی پسندیدہ مضمون ہوتا ہے جس سے ہو یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہتر ہوگا کہ کورس میں موجود تفصیلات کا جائزہ لے لیا جائی، کیونکہ کچھ مضمون اسکول کے مقابلے یونیورسٹی میں یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔

#### متعدد مشترکہ مضمون

اکسفورڈ کئی 'مشترکہ' کورسز کی پیشکش کرتا ہے، جو کہ مختلف مضمونیں بین جنہیں بیک وقت اکٹھے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طلباً ایسی مختلف مضمونیں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جن میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔

#### کچھ نیا

ایسے بہت سے کورس موجود ہیں جو عام طور پر اسکول میں دستیاب نہیں ہوتے، مثال کے طور پر علم آثار قدیمہ (آرکیلوچی) اور علم نوع انسان (اینٹھریوبیولوچی)، بابو کیمسٹری، اور علوم انسانی (بیومن سائنسز)۔ یہ کورسز ایسے طلباً کے لیے بالکل موزون ہیں جو کسی ایسی نئی چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مسحور کن ہو۔

ملازمتوں کی ایک بڑی اکٹیت یونیورسٹی میں پڑھے جانے والے مضمون کی وضاحت نہیں کرتی ہے؛ تمام ڈگری کورسز ایک وسیع پیمانے پر آپ کو ملازمت کی قابل قدر مہارتیوں سے آراستہ کرتے ہیں۔

جوناٹن بلیک (BLACK)  
کیریئر سروس



ہمارے کورس کے انتخاب کی ویڈیو ملاحظہ کریں:  
[ox.ac.uk/whichcourse](http://ox.ac.uk/whichcourse)



### کیا ہم یونیورسٹیوں میں پیش کردہ کورسز یکساں ہیں؟

مختلف یونیورسٹیوں کے کورسز بہت حد تک مختلف ہو سکتے ہیں، خواہ یہ یکساں ہی کیوں نہ کھلائے جائیں۔ آپ کے بچے کے لیے کورس میں شامل تفصیلات کا جائزہ لینا ایک اچھا خیال ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس میں ان پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔

### آکسفورڈ میں کس طرح کے کورسز دستیاب ہیں؟

آکسفورڈ میں ایک وسیع پیمانے پر کورسز دستیاب ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔

- بمارے ہم کورسز کم سے کم تین سالوں تک چلتے ہیں، لیکن کچھ میں چار یا پانچ سال لگ سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب اس میں بیرون ملک ایک سال کا قیام یا توسعی پراجیکٹ شامل ہو۔

- بمارے ہم کورسز میں اہم موضوعات کے ساتھ ساتھ، متعدد اختیارات شامل ہیں جن میں سے طلاء انتخاب کرسکتے ہیں، جوکہ اس بات پر منحصر ہے کہ انہیں کس چیز میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔

### داخلے کے لیے کیا گریڈز درکار ہیں؟

A لیول (یا اس کے مساوی) میں ایک طالب علم کی جانب سے حاصل کیے جانے والے گریڈز اس قسم کے یونیورسٹی کورسز پر بہت حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں جو ان کے لیے کھلے ہوں۔ کچھ کورسز کے لیے درخواست کا اپل بونے کے لیے بہ درکار ہے کہ طلاء نے کچھ مخصوص مضامین پڑھ رکھے ہوں۔ آکسفورڈ میں ایک مضبوط درخواست دینے کے لیے، طالب علم سے تین A-لیولز (یا مساوی) حاصل کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ ان کے لیے درکار گریڈز اس کورس کے لحاظ سے مختلف بوسکتے ہیں جن کے لیے وہ درخواست کرتے ہیں، اور بہت سے کامیاب امیدوار حقیقتان سے اعلیٰ گریڈز حاصل کر چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ عام طور پر لگ بھگ ذیل کے برابر ہوتے ہیں:

- A-A\*A-AAA-A-لیولز:
- اگر آپ کا بچہ کوئی بھی سائنس A-لیولز لے رہا ہے، تو ان سے پریکٹیکل کمپونینٹس لیتے اور پاس کرنے کی توقع بھی کی جاتی ہے۔



# وہاں تدریس کا کیا تصور ہے؟ ماہرانہ اور شخصی



آکسفورڈ کی تدریس زیادہ تر دیگر یونیورسٹیوں سے مختلف ہے۔ بر طالب علم کو اپنے معلمین کی جانب سے ذاتی نوعیت کی وافر توجہ حاصل ہوتی ہے، جبکہ ساتھ پر خودمختارانہ طور پر سیکھنے میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

## آکسفورڈ میں طلاء کو کیسے پڑھایا جاتا ہے؟

آکسفورڈ میں عموماً معینہ وقت کے دوران طلاء کو باقاعدگی سے سبق آموز تدریس فراہم کی جاتی ہے۔ ٹیوٹوریل کس کورس کے موضوع پر ایک بات چیت ہے، عام طور پر یہ ایک معلم اور دو یا تین طلاء کے درمیان ہوتا ہے، اور لگ بھگ ایک گھنٹے تک چلتا ہے۔ اس دوران، وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس بفتے طلاء کیا پڑھتے ہیں اور تیار شدہ کام پر انہیں ردعمل دیا جائے گا۔ اس کورس پر منحصر ہوتے ہوئے جو وہ رہے ہیں، یہ کسی مضمون یا مسئلے کی شیٹ پر دیا جا سکتا ہے۔

## کیا تدریس کی کوئی دیگر اقسام موجود ہیں؟

ٹیوٹوریل کے ساتھ ساتھ، طلاء لیکچرز میں بھی شامل ہوتے ہیں، جہاں پر ایک ٹیوٹور ایک بڑے گروپ سے کسی موضوع کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ طلاء کے ایک گروپ کے ساتھ بفتہ وار کلاسز بھی لے سکتے ہیں۔ کچھ کورسز، بالخصوص سائنسی میں، لیباریٹریز میں عملی سیشنز یا بیرونی فیلڈ ورک کروایا جاتا ہے۔



## کیا وہ بذات خود مطالعہ بھی کرتے ہیں؟

آکسفورڈ میں، طلاء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہت سا کام خود سرانجام دیں۔ اس میں اکثر کتابوں کی مطالعاتی فہرست کے ذریعے کام کرنا، مضمون لکھنا یا سوالات پر مشتمل ایک پرالیم شیٹ کو مکمل کرنا شامل ہے۔ طلاء ان اعمال پر خودمختار طور پر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ٹیوٹریز سوالوں کے جواب دینے اور مدد کرنے کے لیے موجود ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے کے اس طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ طلاء بہتر انداز میں اپنے وقت کی تنظیم سیکھ سکتے ہیں۔ عملی کام کے ساتھ سائنس کورسز لینے والی طلاء کا ان طلاء کی نسبت خودمختار طور پر کام کرنے کا امکان کم ہے جو مضمون پر مبنی موضوعات جیسے کہ تاریخ یا انگریزی لیتے ہیں۔

## کیا یہاں امتحانات ہوتے ہیں؟

آکسفورڈ میں کورسز کی جانچ کلی طور پر امتحانات کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن مضمون کے لحاظ سے، اس میں پراجیکٹس یا طویل مضامین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر کورسز میں، طلاء اپنے پہلے سال میں امتحانات دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس میں کامیاب بونا لازم ہے، لیکن اس کا شمار ان کی ڈگری کی حد تک کلاس میں نہیں کیا جائے گا۔ اگلے چند سالوں میں، طلاء 'تمنی' امتحانات کی جانب بڑھنے لگیں گے، جو کہ عام طور پر ان کے آخری تعلیمی ایام میں انجام پاتے ہیں۔ ان امتحانات کے نتائج ان کی ڈگری کے درجے کا تعین کریں گے۔

## ٹیوٹوریل سسٹم

غیرمعمولی ہے اور یہ تعلیم کی فراہمی کی دیگر کسی بھی صورت سے یکسر منفرد ہے۔  
**آدیتی (ADITI)**

## مستقبل کے لیے تعلیمی ابلیتیں

آکسفورڈ میں طلاء کو جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے وہ انہیں مضمبوط سوچنا اور واضح طور پر بات چیت کرنا۔ جس کا استعمال ان کی بقیہ اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔

# یہاں تدریس کے حوالے سے دیگر کس قسم کی مدد موجود ہے؟

## انفرادی مدد، لاکھوں کتابیں اور تعلیم کے لیے پرسکون جگہیں

آکسفورڈ میں طبلاء کوئی محنت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت زیادہ مدد دستیاب ہے، اور بہت سی لائبریریاں اور دیگر سہولیات اس امر کو پر ممکنہ حد تک بموار بنا دیتی ہیں۔ ہم اس امر کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں کہ حالات سے بالاتر، تمام طبلاء آکسفورڈ میں اپنے کورس اور وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔

### مدد کے لیے وہ کس کے پاس جا سکتے ہیں؟

آکسفورڈ کے بر طالب علم کو ایک انفرادی ٹیوٹ فرایم کیا جاتا ہے جوکہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہی شخص انہیں پڑھائے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص موجود ہے جن کے پاس وہ اپنے سوالات یا خدمات لے کر جاسکتے ہیں۔ اس ٹیوٹ کو بر طالب علم کو اچھی طرح سے جانے کا موقع ملتا ہے، اور وہ انہیں کہیں زیادہ انفرادی توجہ اور معاونت فرایم کر سکتا ہے۔

**انہیں خصوصی ضروریات کا سامنا ہونے کی صورت میں کیا بوگا؟**  
اگر آپ کے بچے کو کسی قسم کی خصوصی ضروریات کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر انہیں اپنے امتحانات کے لیے اضافی وقت درکار ہے یا IT کے مخصوص سازوں سامان کی ضرورت ہے۔ تو معدوزوں سے متعلق مشاورتی خدمت (Disability Advisory Service) درکار تعاون حاصل کرنے میں ان کی مدد کے لیے موجود ہے۔ کسی بھی قسم کی اضافی لاکھوں کا احاطہ کرنے کے لیے، آپ کا بچہ معدوز طبلاء کے الاؤنس کے لیے اپل ہوسکتا ہے۔

**لائبریریوں اور تعلیمی جگہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟**  
طلباں کو اپنی تعلیم میں مدد کے لیے حریت انگیز سہولیات تک رسائی بھی حاصل ہے۔

### آکسفورڈ کی لائبریریاں

طلباں کو اگرچہ سبھی نہیں، لیکن اپنی ضرورت کی زیادہ تر کتابوں، اور پڑھنے کے لیے بہت سی پرسکون جگہوں تک رسائی حاصل ہے۔ انہیں لائبریریوں کو استعمال کرنے کی تربیت دی جائی گی، اور بمارا مابر عملہ پر نہ شدہ اور آن لائن کتابوں کی ایک بڑی تعداد اور دستیاب ہونے والی معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں آپ کے بچے کی مدد کر سکتا ہے۔

[www.bodleian.ox.ac.uk](http://www.bodleian.ox.ac.uk)

### میوزیم (عجائب گھر) اور گلیلیاں

آکسفورڈ میں سات عجائب گھر اور مجموعات ہیں۔ فارغ وقت میں انہیں دریافت کرنا ایک بہترین عمل ہے، لیکن طبلاء کی جانب سے کورسز کی ایک وسیع حد میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔

[www.glam.ox.ac.uk](http://www.glam.ox.ac.uk)



477

ریڈ کلف سائنس  
(Lambeth) (The Radcliffe)  
لائبریری (Science Library)  
پٹ ریورز (Pitt Rivers Museum)  
میوزیم (Museum)  
برابر میں واقع ہے جوکہ وقفہ لینے کے لیے  
ایک بہترین جگہ ہے۔ نزدیک موجود  
عبادت کا کمرہ مطالعے کے لیے  
ایک پرسکون مقام ثابت بوتا  
ہے۔ امینہ (AMINA)

### لسانی مرکز

آکسفورڈ کے طبلاء کو یہاں رہتے ہوئے ایک نئی زبان سیکھنے کے قابل ہونے کے لیے کوئی لسانی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا مرکز موجود ہے جس میں نوآموز سے لے کر مابین تک سبھی کے لیے کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر زبان سیکھنا آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، آیا یہ ان کی تعلیم ہو، پیشہ ہو، یا سفر ہو۔

[www.lang.ox.ac.uk](http://www.lang.ox.ac.uk)

# طلباء کہاں رہتے ہیں؟ محفوظ اور پرپاک کالج کمیونٹیز

اپنی تعلیم کے دوران، طلباء ہمارے کالجوں میں سے کسی ایک سے وابستہ رہتے ہیں۔ آکسفورڈ سٹی سنٹر کے آس پاس تقریباً 30 سے زائد کالج موجود ہیں۔ یہ محفوظ اور پرپاک کمیونٹیز ہیں جہاں پر آپ کا بچہ اپنا زیادہ تر وقت گزارے گا، خصوصی طور پر اس وقت جب وہ پہلی بار یہاں آتے گا۔ دیگر یونیورسٹیوں کی طرح آکسفورڈ میں کوئی مرکزی کیمپس موجود نہیں ہے۔

“”

اس طرح کی فریبی  
کمیونٹی کے ساتھ  
آپ کو جو دوستانہ گھریلو  
ماحول ملتا ہے وہ تقریباً ایک  
دوسرا خاندان کی طرح ہوتا ہے اور  
آپ کو گھریلو پن کا احساس  
دلاتا ہے۔  
جیک (JACK)



## کالج کیا ہوتا ہے؟

کالج آکسفورڈ کی زندگی کا مرکز ہیں، اور زیادہ تر طلباء کا ماننا ہے کہ یہ ان کا دوسرا گھر ہے۔ کالج ایک ایسی جگہ ہے جہاں طلباء کھا/پی سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور اپنے برتن/کپڑے دھو سکتے ہیں۔ کالج ٹیوٹر ٹاؤن میں طلباء کی مدد کرتے ہیں، اور عام طور پر طلباء کو ان کے کالجوں میں پڑھاتے ہیں۔ کالجوں میں داخلہ لاجز موجود ہوتے ہیں جن میں عام طور پر 24/7 عملہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ اپنے مضمون کے شعبے اور یونیورسٹی بھر میں بونے والی تقریبات میں دیگر کالجوں کے لوگوں سے بھی ملے گا۔ کالجوں کے مابین بہت سی تقریبات کا ابتمام کیا جاتا ہے اور طلباء اکثر اپنے دوستوں کو مدعو کرتے ہیں۔

## فرق کیا ہے؟

بر کالج کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر طرز زندگی کافی حد تک یکساں ہوتا ہے۔ کچھ بہت پرانے ہیں، دیگر بہت حد تک نئے ہیں۔ کچھ کافی بڑے ہیں اور دیگر کافی چھوٹے ہیں۔ ان کا تعلق جس بھی کالج سے ہو، آپ کے بچے کا ڈگر کورس ایک بھی انداز میں پڑھایا جائے گا۔

## کیا کالج کا انتخاب آپ کرتے ہیں؟

درخواست دیتے ہوئے، آپ کا بچہ یا تو کسی خصوصی کالج کا انتخاب کر سکتا ہے یا 'کھلی درخواست' جمع کرو سکتا ہے، جو کہ یہ کہنے کے برابر ہے کہ "مجھے اعتراض نہیں ہے"۔ ہمیں امید ہے کہ لوگ کالج کے انتخاب کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر طلباء کو لکھتا ہے کہ ان کا کالج بہترین ہے۔ پڑھنے کے لیے درست کورس کا انتخاب کھینچ کر اپنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

2019 میں، 35% کامیاب  
درخواست دیندگان کو ایک  
ایسے کالج سے پیشکش ہوئی  
جس کا انتخاب انہوں نے اپنی  
درخواست میں نہیں کیا تھا۔





اگر آپ کے بچے کے کوئی خصوصی ریاضی تقاضے بیں، تو یہ نہیات ایم بے کہ بھیں اس بارے میں جتنی جلدی ممکن یو سکے آگاہ کیا جائے۔ ہم مشورے کے لیے معذوری سے متعلق اپنی مشاورتی خدمت سے رابطہ کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔

[ox.ac.uk/das](http://ox.ac.uk/das)

### کیا آپ کالج میں رہتے ہیں؟

بمارے تمام طلباء کو ان کے پہلے سال کے لیے کالج میں ایک کمرہ دیا جاتا ہے۔ اس کا ابتمام کالج کی جانب سے کیا جاتا ہے، لہذا آپ کے بچے کو بذات خود اس کا ابتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمام کالج کم سے کم مزید ایک سال کے لیے کمروں کی پیشکش کرتے ہیں، اور کچھ مکمل کورس کے لیے پیشکش کرتے ہیں۔ نجی ریائش گاہ میں رہنا مزید مہنگا پڑے سکتا ہے کیونکہ عام طور پر معابدے میں چھٹیوں سمیت، پورے سال کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ جو طلباء اپنے کالج میں نہیں رہتے ہیں وہ بھی تمام سہولیات کا استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت سے طلباء اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے اور پہلی بار خود مختارانہ طور پر رہنے کے تجربے سے واقعتاً لطف اندوز ہوتے ہیں۔

### کالج کے کمرے کیسے ہوتے ہیں؟

یہ کمرے کالج کی مرکزی عمارتوں یا قریب بی کسی جگہ پر واقع ہو سکتے ہیں۔ کمرے سائز میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اچھے معیار کے اور آرائستہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کے بچے کو کبھی بھی اپنی خوابگاہ کے اشتراک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ کالج کے کمروں میں ایک علیحدہ شاور یا بیت الخلاء موجود ہوتا ہے۔ بہت سے طلباء کبھی کھار اپنے کمرے میں مطالعہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں میزین فراہم کر دی جاتی ہیں۔ نئے طلباء کو عام طور پر ایک دوسرے کے آس پاس کمرے دیے جاتے ہیں تاکہ نئے آئے والوں کو جانتے میں آسانی ہو۔

### چھٹی کے دوران اخراجات

میں مدد کے لیے نگداشت کے تجربہ والی اور گھر سے دور رہنے والے طلباء کو £3,000 تک کی ناقابل ادائیگی بسری فراہم کی جاتی ہے۔ انہیں 365 دن پر مشتمل ریائش کے تحفظ کے لیے بھی مدد فراہم کی جاتی ہے۔



### کہانے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟

تمام طلباء کالج کے ڈائیننگ بال میں میزاعات یافتہ تازہ کہانے کہا سکتے ہیں۔ انہیں باروچی خانے کی سہولیات تک رسائی بھی حاصل ہو سکتی ہے جہاں اگر وہ چاہیں، تو اپنا کھانا بناسکے ہیں۔

### کیا میرا بچہ گھر پر رہ سکتا ہے؟

انڈرگریجوئیٹس کو مرکزی آکسفورڈ سے چھ میل کے اندر اندر، یا اگر وہ اپنے خاندانی گھر میں رہتے ہیں تو 25 میل کے اندر اندر رہنا بوگا۔ اس کے لیے کچھ استثنائیں موجود ہیں، لیکن بمارے خیال میں یہ آکسفورڈ سے بھرپور فائڈہ اٹھانے میں طلباء کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔



[ox.ac.uk/ugcolls](http://ox.ac.uk/ugcolls)

# ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ مدد اور مشورہ دستیاب ہے

یونیورسٹی آئی بوئی زیادہ تر طلیاء کی عمر 18 سال سے زائد ہوتی ہے اور لمبدا و بالغ گردانے جاتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ بہت سوں نے حال پی میں اسکول چھوڑا ہو اور یہ پہلی بار ہوگا کہ وہ رہنے کے لیے گھر سے دور آئے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں موجود تمام افراد کو گھریلوں پن کا احساس ہو اور وہ فوری طور پر یہاں رجس جانیں اور یہاں پر بہت سے لوگ مدد کے لیے موجود ہیں۔

## یہاں کس قسم کی معاونت دستیاب ہے؟

آکسفورڈ اپنے قائم طلیاء کی بہبود کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ مشکلات کے سامنہ بونے پر ایسے بہت سے طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے آپ کا بچہ مدد حاصل کر سکتا ہے۔ کالج ٹیوٹرز آپ کے بچے کی تعلیم میں معاون کرتے ہیں لیکن وہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی مشورہ فراہم کر سکتے ہیں۔ کالج کا دیگر متعدد عملہ، بشمول ویلفیئر آفیسرز، یہاں رجس جانے میں طلیاء کی مدد کرتے ہیں اور عملی اور صحت سے متعلق معاملات پر مشورہ دینے کے لیے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں۔

## صحت سے متعلق کس قسم کی مدد دستیاب ہے؟

زیادہ تر طلیاء کو کالج کی نرس کے ساتھ، مقامی GP سرجری تک رسانی حاصل ہے۔ جان ریڈ کلف پاسپلیٹ John Radcliffe Hospital A&E کا ایک محکمہ موجود ہے اور یہ 15 منٹ کی دوری پر واقع ہے۔

## ان کے معدود بونے کی صورت میں کیا ہوگا؟

بماری معدودی سے متعلق مشاورتی خدمت یہ یقینی بنانے کے لیے موجود ہے کہ بمارے ایسے طلیاء آکسفورڈ سے بھرپور فائڈہ اٹھا سکیں جو کسی بھی قسم کی دکھائی دینے والی یا نہ دکھائی دینے والی معدودی کا شکار ہیں۔

[ox.ac.uk/das](http://ox.ac.uk/das)



## میرا بچہ بات کرنے کے لیے کس کے پاس جاسکتا ہے؟

• یونیورسٹی میں صلاحکاری کی مفت خدمت موجود ہے جو کہ تربیت یافتہ مشیران کے ساتھ فرد بفرد اور گروپ نشستوں کے ساتھ ساتھ، ورکشاپس اور ذاتی مدد کے امداد کی پیشکش کرتی ہے۔

[ox.ac.uk/students/shw](http://ox.ac.uk/students/shw)

• ساتھی رضاکارانہ کارکنان کو صلاحکاری کی خدمت کی جانب سے تربیت فراہم کی جاتی ہے، تاکہ اگر طلیاء چاہیں تو دوسرے طلیاء سے بات کر سکیں۔ +LGBTQ اور مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے طلیاء کے لیے خصوصی پروگرام موجود ہیں۔

• آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین عمومی مشورے کی ایک خدمت چلاتی ہے جہاں طلیاء مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی پریشانیوں کے بارے میں کھل کر بات کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر رقم کی تنظیم یا کسی تعلق میں آئے والی مشکلات سے مٹھنے کے حوالے سے۔

[www.oxfordsu.org/wellbeing](http://www.oxfordsu.org/wellbeing)

• طلیاء کے لیے طلیاء بی کی جانب سے چلاج جانے والی، آکسفورڈ نائٹ لائن تعلیمی ایام کے وقفے کے دوران روزانہ رات کو 8 بجے سے صبح 8 بجے کے درمیان طلیاء کو کسی مخصوص یا قائم چیزوں کے بارے میں کسی سے بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

[oxfordnightline.org](http://oxfordnightline.org)

آکسفورڈ میں  
مختلف قسم کے  
عقیدے سے تعلق رکھنے  
والے گروپوں کے لیے عبادت  
کی سہولیات اور سوسائٹیز  
موجود ہیں۔



نفیساتی بیماری میں  
مبتلا بونے کے باعث مجھے  
بمیشہ سے ہی تعلیمی لحاظ  
سے یا بصورت دیگر یونیورسٹی میں  
اپنی کامیابی کے امکان پر شبہ رہا ہے۔  
شکر ہے، کہ میرے ٹیوٹرز اور ساتھی طلیاء نے  
مجھے بالاحترام اور باقدار بونے کا احساس  
دلایا، جس سے مجھے پروان چڑھنے میں  
مدد ملی۔  
آنا (ANNA)

# کیا وہاں پر تفریح کرنے اور دوستوں کے لیے وقت ملتا ہے؟

## دریافت کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے سینکڑوں مواقع موجود ہیں

یونیورسٹی جانے کے حوالے سے بہترین چیزوں میں سے ایک سماجی زندگی ہے۔ آکسفورڈ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ وہاں پر ملنے کے لیے بہت سے لوگ، کرنے کے لیے بہت سی چیزوں اور نئی دلچسپیاں اور مہارتوں کو دریافت کرنے کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ جہاں آکسفورڈ کے طلباء کڑی محنت کرتے ہیں، ویسی ان کے پاس بنسنے، آرام کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سا وقت موجود ہوتا ہے۔



### میرا بچہ کس قسم کی سرگرمیوں میں شامل ہو سکتا ہے؟

آکسفورڈ میں طلباء کے پاس اس دوران شرکت کرنے کے لیے ڈھیروں سرگرمیاں موجود ہیں جب وہ نہ پڑھ رہے ہوں۔ یہ نہ صرف نہایت پرلطف اور دوست بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے، بلکہ یہ مستقبل کے لیے کارآمد صلاحیتیں پیدا کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔

### کلیز اور سوسائٹیز

موسیقی، کھیل، سیاست یا ڈرامہ سے لے کر، مذہبی عقائد، قومی اور ثقافتی گروپوں تک سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔

### کھیل

آکسفورڈ میں 80 اسپورٹس کلیز موجود ہیں اور حصہ لینے کے لیے سے مختلف طریقے دستیاب ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا آپ نوآموز ہیں یا بطور بین الاقوامی ایتھلیٹ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔

### موسیقی اور ڈرامہ

ایسے متعدد بیننڈ، کواہر اور آرکسٹراز موجود ہیں جن میں حصہ لیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی اسٹیج اور اسکرین پر اداکاروں، بدایتکاروں اور مصنفین کے لیے حیرت انگیز مواقع موجود ہیں۔

### کیا وہاں ان جیسے لوگ موجود ہوں گے؟

ہمارا عملہ اور ہمارے طلباء بر قسم کے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ ان قام لوگوں کو تلاش کر سکے گا جو اس جیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ طالب علم کی زندگی کے بارے میں سب سے مزیدار اور دلچسپ چیزوں میں سے ایک ہے۔ آکسفورڈ میں سینکڑوں گروپس، کلبز، سوسائٹیز یا مہماں میں سے کسی ایک یا زائد میں شامل ہونا یقیناً آپ کے بچے کے لیے دوستوں سے ملنے اور اپنے لوگوں کو تلاش کرنے کے سب سے آسان طریقوں میں سے ایک ہے۔

ابتداء ہی سے اپنے آپ کو کالج کی سماجی زندگی میں مشغول کرنے، اور یونیورسٹی بھر میں ہونے والی افیقی اور کریبیائی سوسائٹی میں شامل ہونے سے، آکسفورڈ نے مجھے دکھایا ہے کہ یہ جگہ پس منظر سے قطع نظر، قام افراد کے لیے ہو سکتی ہے۔

ابنڈی (ANDI)

آکسفورڈ میں پس منظر، قومیت اور عقائد کی ایک وسیع حد کے لیے گروپس، کلبز اور سوسائٹیز موجود ہیں۔

### آکسفورڈ کا طرز زندگی کیسا ہے؟

UK میں آکسفورڈ کو طلباء کے لیے دس محفوظ ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، لہذا آپ کا بچہ آپ کے لیے بہت زیادہ فکر کا باعث بنے بغیر اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکتا ہے! اس شہر میں دو یونیورسٹیاں موجود ہیں؛ یونیورسٹی آف آکسفورڈ (University of Oxford) اور آکسفورڈ بروکس (Oxford Brookes)۔ یونیورسٹی اور یہاں پر UK کے طلباء کی سب سے بڑی آبادی رہتی ہے۔ رہنے کے لیے یہ ایک تفریحی اور زندہ دل جگہ ہے۔

[ox.ac.uk/livingin](http://ox.ac.uk/livingin)

\*یونیورسٹی کا مکمل بدایت نامہ

# آکسفورڈ میں کس قسم کے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟



## تمام پس مناظر سے تعلق رکھنے والے اور یکسر مختلف دلچسپیوں کے حامل افراد

آکسفورڈ میں لگ بھگ 12,000 انڈرگریجوئیٹ طلباء ہیں، جن کا تعلق پس مناظر اور دلچسپیوں کی ایک حیرت انگیز حد سے ہے۔ ان کا تعلق اسکول کی مختلف اقسام اور دنیا بھر سے ہوتا ہے۔ ان میں جو چیز مشترک ہے وہ سیکھنے کے عمل سے لگاؤ اور پڑھنے کا پڑ بے۔



### کیا آکسفورڈ میں ان کا خیرمقدم کیا جائے گا؟

ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بر شخص کا خیرمقدم کیا جائے، انہیں باقدر اور باحترام ہونے کا احساس دلایا جائے۔ ہم معلوم ہے کہ فی الوقت کچھ پہنچنے طلباء یہ محسوس کرتے ہیں کہ آکسفورڈ ان کے لئے نہیں ہیں اور ہم اس سوچ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آکسفورڈ بر اس شخص کے لیے ایک قابل رسانی پدف ہے جو تعلیمی پڑ اور پابندی کا مالک ہو۔ یہ نہایت اہم ہے کہ بر قسم کے پس مناظر سے تعلق رکھنے والے افراد بمارے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ یہی وہ امر ہے جو سیکھنے کے لیے آکسفورڈ کو دنیا بھر میں بہترین مقامات میں سے ایک بناتی ہے۔

### کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میرا بچہ کس اسکول میں جاتا ہے؟

پس منظر سے قطع نظر، ہم بیمیشہ سے ہی ایسے طلباء کی تلاش میں رہے ہیں جو بہترین تعلیمی پڑ کے حامل ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کے سبب کچھ طلباء کے لیے اعلیٰ ترین گریڈز حاصل کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے درخواستوں پر غور کرتے ہوئے ہم بہت سی مختلف معلومات پر نظر رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم انفرادی تجربات کے قنالوں میں طلباء کی کامیابیوں کو سمجھ سکیں۔ آپ ذیل پر اس بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح سے انجام دیتے ہیں:

[ox.ac.uk/context](http://ox.ac.uk/context)

#### آکسفورڈ میں

طالب علم کی کوئی  
قسم نہیں ہے۔ یہ نہایت  
خوبصورت کے ساتھ متعدد ہے  
اور آپ کو اپنی جگہ مل جائے  
گی۔

ادیتی (ADITI)

#### مجھے نہایت خوشی ہے

کہ اس حوالے سے میرے  
شکوک و شبہات نے مجھے  
درخواست دینے سے باز نہیں رکھا کہ  
میں یہاں کس حد تک رچ بس سکوں کی  
کیونکہ یہاں گزارا جانے والا سال میری  
زندگی کے بہترین سالوں میں سے  
ایک تھا۔

کریسٹی (CHRISTY)



افریقی کریبیانی

سوسائٹی نے مجھے

مختلف پس منظر سے آئے والے

بہت سے مختلف متأثر کن طبلاء سے

ملنے کا موقع فراہم کیا

فینیکس

آکسفورڈ کے 20% انڈر  
گریجوئیٹس طبلاء میں کس  
نہ کسی قسم کی معدوری کی  
شناخت کی گئی ہے۔

### آکسفورڈ میں کس انداز میں تبدیلی آرہی ہے؟

یہاں پر کچھ گروبوں کی گماਨدگی اب بھی محدود ہے، لیکن اس میں تبدیلی آرہی ہے۔ یونیورسٹی میں ابھی سے بس سیاہ فام اور نسلی اقلیت سے تعلق رکھنے والے طبلاء پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں آئے ہیں (بماਰے 2019 کے انڈرگریجوئیٹ کے لیے بونے والے داخلوں سے 22% زیادہ)۔

2023 تک، ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ 25% جگہیں آکسفورڈ کے ایسے انڈرگریجوئیٹس کو دی جائیں گی جن کا تعلق UK کے ایسی پس مناظر سے ہے جن کی فی الوقت یہاں محدود گماਨدگی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم رسمی سے متعلق دو دلچسپ پروگراموں کو ترتیب دے رہے ہیں جنہیں Foundation Oxford اور Opportunity Oxford کہا جاتا ہے۔ UK کے ریاستی اسکول کے طبلاء کے لیے بماری جانب سے ترتیب شدہ UNIQ پروگرام میں حصہ لینا پہلے سے بس کسی شخص کے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جگہ بنانے کے موقعے کا زیادہ امکان پیدا کر دیتا ہے۔ Target Oxbridge کے ساتھ بمارے بامی تعاون کا مقصود سیاہ فام افریقی اور کریبیانی طبلاء اور سیاہ فام افریقی اور کریبیانی میراث کے حامل مخلوط نسل کے طبلاء کو آکسفورڈ کے لیے ایک مضبوط درخواست دینے میں تعاون فراہم کرنا ہے۔

ان پروگراموں کے ساتھ ساتھ، ہم پر سال اور ملک بھر کے ریاستی اسکولوں اور کمیونٹیز کے ساتھ بڑاون آٹھ ریچ سرگرمیوں کا ابتمام کرتے ہیں۔ ہم اس بارے بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی فرد کہیں سے بھی اس بارے میں معلوم کر سکے کہ آکسفورڈ میں ایک طالب علم کی زندگی کیسی بوتی ہے اور درخواست کیسے دی جاتی ہے۔ ان سب سے ابھی سے بس نیاں فرق پیدا ہونے لگا ہے اور بمارے طبلاء زیادہ سے زیادہ مختلف پس مناظر سے آرہے ہیں۔

آکسفورڈ کے 19%  
انڈرگریجوئیٹ طبلاء کی  
شناخت سیاہ فام یا اقلیت نسل  
کے بطور کی گئی ہے۔



# وہ کس طرح سے درخواست دیں گے؟

## یہ سمجھنا کہ ہمیں کس کی تلاش ہے



آکسفورڈ میں جگہ حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ حال ہی میں، 23,000 سے زائد لوگوں نے لگ بھگ 3,250 جگہوں کے لیے درخواست دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آکسفورڈ میں درخواست دینے کا طریقہ کار زیادہ تر دیگر یونیورسٹیوں کے مقابلے میں نسبتاً پیچیدہ ہے۔ ہم ایسے طلباء کی تلاش میں بین جوکہ آکسفورڈ کی جانب سے پیش کردہ قام چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، جو یہاں خوش ہوں گے اور فروغ پائیں گے۔

**بہترین درخواست دینے کے لیے میں کس طرح سے اپنے بچے کی مدد کر سکتا ہوں؟**

UK کی کسی بھی یونیورسٹی میں درخواست دینے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت پوتی ہے، لیکن آکسفورڈ میں درخواست دینے کے لئے کچھ مزید اقدامات درکار ہیں:

- متعدد دیگر کی طرح جنوری کے بجائے، آکسفورڈ کی درخواستیں اکتوبر میں جمع کی جاتی ہیں۔

- آپ کا بچہ UCAS کے ذریعے درخواست دے گا، بالکل اسی طرح جیسے UK کی دیگر کسی بھی یونیورسٹی میں دی جاتی ہے۔

- آکسفورڈ کی درخواستیں میں اکثر داخلے کے ٹیسٹس شامل ہوتے ہیں۔ طلباء کو یہ دیکھنے کے لئے پرتوال کرنی پوچھ کر آیا انہیں ٹیسٹ میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، آخری تاریخ تک اس میں اندرج کروائیں اور [ox.ac.uk/tests](http://ox.ac.uk/tests) پر نوٹے کے آن لائن پیپرز کا استعمال کرتے ہوئے مشق کریں۔

- بمارے کچھ کورس میں طلباء سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ تعریری کام جمع کروائیں۔ آپ کے بچے کو بماری ویب سائٹ کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کاہ آیا اسے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔
- منتخب شدہ امیدواروں کو ایک انٹرویو میں شامل ہونے کے لئے دسمبر میں آکسفورڈ آئے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ ایک ممکنہ ٹیوٹر کے ساتھ ایک تعلیمی گفتگو پوتی ہے۔

ان تمام اقدامات سے بہمیں سب سے زیادہ پہنچنے درخواست دیندگان کی تلاش میں مدد ملتی ہے جوکہ یہاں واقعنا اس طریقے سے لطف انداز ہوں گے جس طریقے سے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

**بہترین درخواست دینے کے لیے میں کس طرح سے اپنے بچے کی مدد کر سکتا ہوں؟**

- اسکول کے اعلیٰ گریڈز اہم ہیں اس لیے اپنے بچے کی اسکول میں وہ مضامین پڑھنے میں حوصلہ افزائی کریں جو انہیں پسند ہوں اور جس میں ان کی بہتر کارکردگی کا امکان ہو۔

- آپ کے بچے کو کسی ایسے مضامون کا انتخاب کرنا چاہیئے جوکہ تین یا اس سے زائد سالوں تک پڑھنے سے وہ لطف اٹھا سکے۔ اس حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اچھی طرح سے سوچ لیں، اور ان مضامین پر غور کریں جن کا انہوں نے اس سے قبل مطالعہ نہیں کیا ہے۔

- انہیں موسم گرما کے دوران اپنی UCAS کی درخواست کا آغاز کرنے کا مشورہ دیں - ذاتی بیان میں ان کے خیال سے کہیں زیادہ وقت لگنے کا امکان ہے!

- اگر ان کے کورس میں داخلے کا ٹیسٹ شامل ہے، تو اس امر کو یقینی بنائیں کہ وہ حتیٰ تاریخ 15 اکتوبر تک اس میں اندرج کروالے۔ ان ٹیسٹوں کی مشق کرنے والے طلباء کا بہتر کارکردگی دکھانے کا زیادہ امکان پوتا ہے، لہذا اس حوالے سے اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بماری تجویز کو پڑھے اور بماری ویب سائٹ پر موجود ٹیسٹ پیپرز ملاحظہ کریں۔

درخواست کی

آخری تاریخ: 15 اکتوبر  
شام 6 بجے تک

آپ کے بچے کو درکار قام معلومات بماری ویب سائٹ پر درخواست دیندگان کے لیے موجود بمارے بدایت نامے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر اب بھی ان کے کوئی سوالات ہیں، تو وہ ذیل پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں:  
[ox.ac.uk/ask](http://ox.ac.uk/ask)

# ہم کس طرح سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟

## آپ کی مدد کے لیے ایونٹس اور آن لائن معلومات

ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے بچے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ کس یونیورسٹی میں درخواست دیں، اور انہیں سب سے زیادہ خوشی کہاں ملے گی۔ آکسفورڈ میں درخواست دینے کے لیے مزید پراعتماد محسوس کرنے میں ان کی مدد کے لیے، ہم ہر سال آکسفورڈ میں اور UK کے آس پاس، ہزاروں مفت ایونٹس کا ابتمام کرتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر ایونٹس اور خاندانوں کے لیے دستیاب وسائل کے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہیں [ox.ac.uk/study](http://ox.ac.uk/study)

**کیا کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جن میں ہم شرکت کر سکیں؟**

- آکسفورڈ ہر سال پوری یونیورسٹی میں تین اپنے ڈیز کا ابتمام کرتی ہے۔ یہ طلاء کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے، کالجوں اور شعبوں کو ملاحظہ کرنے، اور موجودہ طلاء اور ٹیوٹرز سے ملنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔

[ox.ac.uk/opendays](http://ox.ac.uk/opendays)

- ہمارے متعدد مضامین کے شعبے بھی اپنے ڈیز کا ابتمام کرتے ہیں۔

[ox.ac.uk/access](http://ox.ac.uk/access)

- اگر وہ آکسفورڈ تک سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کا بچہ ایک آکسفورڈ اور کیمبریج اسٹوڈنٹ کافرننس میں شرکت کر سکتا ہے۔ ان ”ریولنگ اپنے ڈیز“ کا بتمام ملک بھر میں کیا جاتا ہے۔

[oxfordandcambridgeoutreach.co.uk](http://oxfordandcambridgeoutreach.co.uk)

**ان پروگراموں کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں وہ آکسفورڈ میں رہ سکتے ہیں؟**

- UK کے ریاستی اسکولوں میں 12 ویں سال کے طلاء کے لیے ہمارے مفت پروگرام UNIQ کے بارے میں مزید دریافت کریں۔

[uniq.ox.ac.uk](http://uniq.ox.ac.uk)

- اگر ان کا تعلق سیاہ فام یا مخلوط النسل اور افریقی اور کیریبیائی میراث سے ہے تو Target Oxbridge کے بارے میں مزید دریافت کریں۔

[targetoxbridge.co.uk](http://targetoxbridge.co.uk)

**کیا اس قسم کی کوئی آن لائن جگہیں دستیاب ہیں جو ہم استعمال کر سکیں؟**

- Instagram پر **StudyAtOxford** فالو کریں
- اپنے بچے کے اسکول سے یونیورسٹی میں منتقل ہونے میں تعاون کے حوالے سے [ox.ac.uk/forfamilies](http://ox.ac.uk/forfamilies) پر مزید مشورہ ملاحظہ کریں۔



**کیا میرے شعبے سے متعلق کوئی چیز مخصوص ہے؟**

یوکے میں بر ایک سکول اور کالج کا یونیورسٹی کے ساتھ ایک مخصوص معابدہ ہوتا ہے۔ آکسفورڈ کالجوں کے گروپس ملک کے مختلف خطوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور مقامی ضروریات کے مطابق تعاون فراہم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ، جہاں بھی وہ رہے، آپ کا بچہ یونیورسٹی میں درخواست دینے کے حوالے سے تعاون اور معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

[ox.ac.uk/linkcolls](http://ox.ac.uk/linkcolls)

# ہم کس طرح سے ان کی دلچسپی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ان کے تجسس کو دور کرنا

ہمیں معلوم ہے کہ بچے اپنی دنیا کے بارے میں تجسس لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ سیکھتے ہیں۔ ہمارا تجسس ایک عظیم قدرتی صلاحیت ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کچھ ایسے بچوں کو ضرور جانتے ہوں گے جن کے پاس لامحدود سوالات موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اساتذہ بہت مصروف ہوتے ہیں، جو متعدد مختلف ضروریات کے حامل بہت سے بچوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بزمدار طلباء اسکول میں بیزاری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کس طرح سے اپنے خاندان میں موجود متتجسس ذہنوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں؟

سب سے پہلے، براہ کرم یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس تمام جوابات ہونا لازم ہے! محض اس بارے میں بات کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو بچوں کے لیے دلچسپ ہو، اور ان کے لیے یہ احساس اچھا ہوگا کہ جیسے وہ ماہر ہیں۔ نتیجتاً مزید سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سوچنے کا عمل جاری ہے۔ آپ یہ تجویز بھی دے سکتے ہیں کہ کتابوں کے علاوہ - وہ کہاں سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ صرف ایک بی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں تو فکرمند نہ ہوں - بہت سی چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت جانے کے بجائے، چند چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا سیکھنے کا محض ایک اور طریقہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہیں بدنیوں سیکھنا پسند ہے۔

## متتجسس ذہنوں کے لیے کچھ خیالات پیش ہیں:

### 16 سال سے کم

- آزمائیں، جوکہ 18-11 سالہ افراد کے لیے بماری منت تعلیمی ویب سائٹ ہے جوکہ ان ابم سوالات میں سے کچھ کے بارے میں تحقیقات انجام دیتی ہے جو ہمارے مطابق انہیں پسند ہیں۔
- [xplore.org](http://xplore.org)
- اکٹھے مل کر دریافت کریں: TV پر، کتابوں میں، جریدوں میں اور آن لائن۔
- ان کے پسندیدہ موضوعات پر مشتمل YouTube ویڈیوں تلاش کریں۔
- پر آکسپورڈ کی تازہ ترین دریافتیں کے ویڈیو ملاحظہ کریں۔
- [ox.ac.uk/reading](http://ox.ac.uk/reading)
- کسی بھی مقامی عجائب گھروں میں ہونے والی تقریبات میں جائیں: یہ اکثر مفت ہوتی ہیں۔
- اپنے علاقے میں ہونے والے چھٹیوں کے پروگراموں کے بارے میں معلوم کریں؛ کچھ مفت اور مقامی کونسل سے فنڈ یافتہ ہیں۔
- ان کے ساتھ نئے تجربات پر بات کریں۔

### 16 سے زائد

- (میسیو اپن اینڈ آن لائن کورسز) MOOCs (Massive Open and Online Courses)، دیگر آن لائن کورسز اور لیکچرز دریافت کریں۔
- [www.mooc.org](http://www.mooc.org)
- [www.edx.org](http://www.edx.org)
- آن لائن جریدے ملاحظہ کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔
- کچھ ایسے موضوعات کے حوالے سے ٹیڈ ٹاکس ملاحظہ کریں جن میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں۔
- [www.ted.com/talks](http://www.ted.com/talks)
- بف پوسٹ (HuffPost) ملاحظہ کریں، جوکہ بہت سے نو عمر صنفین کے ساتھ ایک آن لائن اخبار ہے۔
- [www.huffingtonpost.co.uk](http://www.huffingtonpost.co.uk)





